

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ
9 جولائی 2020

جامعہ میں اسکول کے اساتذہ کے لیے آن لائن تدریسی ورکشاپ کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یونیورسٹی کے اساتذہ کے لئے مختلف ورکشاپوں کے کامیابی کے ساتھ انعقاد کے بعد ، جامعہ میں اسکولوں کے اساتذہ کے لئے 6 سے 8 جولائی 2020 تک تین روزہ آن لائن ورکشاپ کا انعقاد کیا۔

اس ورکشاپ میں کل 126 سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکولوں کے اساتذہ کے علاوہ پرنسپل اور نائب پرنسپلز نے شرکت کی۔

ورکشاپ کا آغاز پروفیسر اعجاز مسیح ، ڈین ، فیکلٹی آف ایجوکیشن ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاحی کلمات سے ہوا ، افتتاحی تقریر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کی۔ اپنے خطاب میں ، پروفیسر نجمہ اختر نے آن لائن تدریس کے لئے اسکولی اساتذہ میں قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے آن لائن تدریسی مہارت کی خاطر ورکشاپ میں اساتذہ کی فعال شرکت کی خواہش کی۔

پروفیسر اختر نے کہا کہ کووڈ 19 کی وجہ سے تعلیم کے طریقہ کار میں کافی تبدیلی آئی ہے اور ایسے میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ آن لائن طریقہ تدریس سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس جانب ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ رہیں ۔

ورکشاپ کے دوران شرکاء کو ای مشمولات ، متبادل آن لائن حکمت عملی تیار کرنے ، آن لائن کلاسوں کے انعقاد کے لئے پلیٹ فارم کے استعمالات ، گوگل میٹس ، گوگل کلاس روم ، گوگل ٹولز آف ایجوکیشن ، تعلیمی وسائل کی دستیابی اور نصابی کتب ، این آر او آر، ای پاٹھ شالہ وغیرہ سے اخذ و استفادہ کی تربیت دی گئی۔

ورکشاپ میں جامعہ فیکلٹی کے علاوہ تعلیم و تعلم کے لئے ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والی اعلیٰ تنظیموں جیسے سی آئی ای ٹی ، آئی جی او ، اور این آئی ای پی اے کے معروف ماہرین نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی ۔ انہوں نے مصنوعی مشمولات اور موضوع سے متعلق نقطہ نظر کے بارے میں وضاحت کی جسے آن لائن تعلیم کے لئے ایک استاد اپنا سکتا ہے۔

انورادھا ہانڈا ، پرنسپل جی ڈی گوینکا پبلک اسکول ، گڑگاؤں ، اور ان کی ٹیم کے ذریعہ اختیار کردہ آن لائن تدریسی حکمت عملی پر مبنی پروگرام کی نمائش کے ذریعہ ورکشاپ اختتام کو پہنچا ۔ شرکاء سے خطاب کے دوران پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ نے کہا اب اساتذہ کا کردار ایک سہولت کار کی ہو گئی ہے اور آن لائن سیکھنے کا ایک بھرپور ماحول پیدا کرنے میں انہیں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ چونکہ اب سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کے سبھی اساتذہ نے آن لائن تدریسی طریقہ کے اوزاروں اور طریقوں سے واقفیت حاصل کر لی ہے تو یونیورسٹی اور اسکول ان کے درس و تدریس سے بھرپور تجربات کی فراہمی کا منتظر ہے ۔

انہوں نے مزید کہا جامعہ ملیہ اسلامیہ جلد ہی اپنے پری پرائمری اور پرائمری اساتذہ کے لئے بھی ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کرے گی تاکہ کوئی بھی استاد اس معاملے میں پیچھے نہ رہ جائے۔

ڈاکٹر سویتا کوشل اور ڈاکٹر ارم خان نے مشترکہ طور پر ورکشاپ کا انتظام و انصرام کیا ۔
شرکاء نے کہا کہ یہ ورکشاپ انہیں آن لائن تعلیم اور تشخیص میں باختیار بنانے ایک سنگ میل کی
حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اب اپنے سیکھنے والوں کی ضروریات اور سیاق و سباق کے لئے موزوں متبادل آن
لائن وسائل کا انتخاب و استعمال کر سکتے ہیں۔

احمد عظیم
پی ار او میڈیا کوآرڈینیٹر